



شکریہ راولپنڈی اور اسلام آباد

- ملک میں اعلیٰ سطحی کرکٹ کی واپسی پر مداحوں کی خوشی دیکھ کر مسرور ہوں، سلمان نصیر
- تقریباً ایک لاکھ سے زائد تماشائیوں نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچز دیکھے
- پی سی بی نے گراؤنڈ اسٹاف کو ایونٹ کی آٹھویں ٹیم قرار دے دیا
- تمام میڈیا ہاؤسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں

لاہور، 9 مارچ 2020ء:

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے 8 میچز کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے راولپنڈی اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مداحوں، مقامی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

اس موقع پر پی سی بی نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ اسٹاف کو احسن انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں لیگ کی آٹھویں ٹیم قرار دیا ہے۔

17 ہزار افراد کی گنجائش کے حامل اسٹیڈیم کے دوران کھیلے گئے آٹھ میچز میں کل ایک لاکھ سے زائد تماشائی موجود تھے۔ اگر ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے دیگر وینیوز پر نظر دوڑائی جائے تو ملتان نے تین میچوں میں 80 ہزار تماشائیوں کی میزبانی کی تھی جبکہ دوسری لیگ کے دوران قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بھی شائقین کرکٹ کاٹرن اوٹ 80 فیصد رہا۔ کراچی میں کھیلے گئے ابتدائی چار میچوں میں نیشنل اسٹیڈیم 90 فیصد شائقین کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔

سلمان نصیر، چیف آپریٹنگ آفیسر:

چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے میچز دیکھنے کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا رخ کرنے پر پی سی بی جڑواں شہروں، راولپنڈی

اور اسلام آباد، کے مداحوں کا مشکور ہے۔

انہوں نے کہا کہ کرکٹ، پاکستانی عوام کا پسندیدہ کھیل ہے اور اس تناظر میں مداحوں کی اسٹیڈیم آمد پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔

سلمان نصیر نے کہا کہ شائقین کرکٹ کی اسٹیڈیم آمد سے جہاں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو وہیں میڈیا کوریج کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت اور روایات کا مثبت پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ لیگ کے دوران چند میچوں میں موسم کھیل کے لیے سازگار نہیں تھا تاہم اس کے باوجود کرکٹ کے مداحوں نے حوصلے اور صبر سے کام لیا۔

چیف آپریٹنگ آفیسر نے گراؤنڈ اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ لیگ میں شامل چھ ٹیموں اور میچ آفیشلز کے بعد گراؤنڈ اسٹاف اس ٹورنامنٹ کی اٹھویں ٹیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے گراؤنڈ اسٹاف اصل ہیروز ہیں، ان کی انتھک محنت کے سبب بارش کے باوجود بھی لیگ کے میچز کا انعقاد ممکن بنایا جاسکا۔

سلمان نصیر نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھی اتنا ہی محنتی گراؤنڈ اسٹاف موجود ہے اور ایسے عملے کی موجودگی پی سی بی کی کامیابی کا بڑا سبب ہے۔

سلمان نصیر نے کہا کہ وہ پی سی بی کی جانب سے مقامی انتظامیہ، صوبائی حکومتوں اور سیکورٹی ایجنسیوں کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے تعاون کے بغیر پی سی بی کے لیے اتنا بڑا ایونٹ منعقد کروانا ممکن نہ تھا۔

چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا کہ خوش قسمتی کے ساتھ پی سی بی کاتمام حکومتی اداروں کے ساتھ مثبت اور مضبوط رشتہ ہے جو اس شاندار ایونٹ کے کامیاب انعقاد کی عکاسی کرتا ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com ●
@thePSLT20 ●
@thePSL ●
PakistanSuperLeague ●
@thePSL ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4